

# رمضان خیر و برکت کا مہینہ

تحریر: مولانا محمد عبدالہادی العری

محترم قارئین! السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ: الحمد للہ! انتظار کی گھڑیاں بیت گئیں، رمضان کا ہم نے آغاز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو تمام امت کیلئے خیر و برکت کا سبب بنائے اور ہمارے لیے یہ رمضان گزشت رمضان سے بہتر ثابت ہو۔

رمضان تقویٰ اور پرہیزگاری کی تربیت کا مہینہ ہے۔ روزوں کی فریضیت کا سبب یہ بتایا گیا کہ تم مقیٰ بن سکو اور یہ تقویٰ تمام عبادات کی روح ہے۔ اس لیے ایک مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ مقیانہ زندگی برکرے چاہے حالات اور تقاضے کچھ بھی ہوں لیکن دولت تقویٰ نہ چھوٹے ہے (یا یہاں الذین امنوا اتقوا الله حق تقاة و لا تموتن الا و انتم مسلمون) [آل عمران: 102] تقویٰ جس کا قرآن مجید میں متعدد مرتبہ ذکر کیا گیا جو ایک مومن سے ہر دم مطلوب ہے۔ اپنے اندر صفت تقویٰ کو پیدا کرنے کا روزہ باہترین ذریعہ ہے اس لیے کہ مختلف عبادات میں کہیں ریا کاری کا خطروہ تو کہیں شہرت طلبی کا اندیشہ، کہیں تن آسانی کا ذرتو کہیں کاملی اور سستی کا دخل۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روح عبادت اور جذبہ نیکی میں توفيق ہو سکتا ہے لیکن بنیاد شرط کی تکمیل میں سب برابر یونکہ روزہ شروع کرنے اور ختم کرنے کے اوقات میں سب برابر، دوران روزہ کئے جانے والے منوع افعال کی حد بندی سب پر یکساں لا گو۔

یوں روزہ کے ذریعہ بنیادی اجر و ثواب میں ہر روزہ دار شریک ہو سکتا ہے البتہ ایمان اور اخلاق کی پختگی کے لحاظ سے درجات کا فرق ہو گا۔ روزہ کی برکتیں اور اثرات روحاں اور جسمانی لحاظ سے ہر شخص پر کسی نہ کسی اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر روزہ کے آداب اور اس کی حکمت تجھنے کیلئے صحیح بخاری کی حدیث پیش نظر ہے۔ (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه و شرابه) [صحیح بخاری]

حدیث مذکور میں سخت تنبیہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ، دروغ گوئی، عکوف فریب، نادانی اور

جاہل انہ حرکتوں سے پر ہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ کی برکتیں زائل اور ثواب سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ گویا ایسا شخص جو حالت روزہ میں ان اخلاقی برا نیوں میں پڑا رہے، صبح و شام تک بھوک پیاس کی محنت کے باوجود روزہ کی برکتوں اور ثمرات سے بڑی حد تک محروم رہے گا کیونکہ اس نے ممنوعہ امور سے بچنے کی کوشش نہیں کی۔ نہ صرف یہ کہ خود وہ برا نیوں سے دور رہے بلکہ اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے کہ دوسرا اس کے ساتھ الجھ پڑے، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا کرے تو روزہ دار کیلئے حکم ہے کہ وہ مکنہ حد تک خود کو اس جھگڑے سے دور رکھے اور کہہ دے کہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ حالت روزہ میں جھگڑے سے بچنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خاردار میں اپنادا من تقوی الجھا بنیھو۔ [ابوداؤد]

یوں روزہ اس کیلئے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ثابت ہو گا جس کا حدیث میں تذکرہ ہے کہ الصوم جنة..... روزہ جہنم سے محفوظ رہنے کیلئے ذہال کی حیثیت رکھتا ہے۔ (والصیام جنة فاذا کان یوم صوم أحد کم فلا یرفث یومئذ و لا یصخب فان سابه أحد او قاتله فلیقل انی امرو صائم) روزہ نہ صرف جسمانی تربیت بلکہ روح کی بالیدگی اور نفس کے ترقی کیہ کا بہترین ذریعہ ہے کہ ایک مومن حفظ اللہ کے حکم پر صبح سے شام تک کھانے پینے اور لذات نفس سے خود کو دور رکھتا ہے، اگرچہ عمومی اعتبار سے یہ کام حرام یانا جائز نہیں لیکن حالت روزہ میں ان سے منع کیا گیا ہے۔

کوئی شخص جو رمضان میں محض اللہ کے حکم کی خاطران سے دور رہے اور اس کی مسلسل ایک مہینہ تک سمجھ کر شعور کے ساتھ مشق کرے، اس سے بجا طور پر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رمضان کے بعد بھی دور رہے گا کیونکہ اس نے ماہ مقدس میں اس کی مشق کی ہے۔ یوں اس کا روزہ اس کی روح اور نفس کی تربیت کا سبب بن جائے گا اور ایسے ہی لوگوں کیلئے بشارت اور عفو و درگزر کا وعدہ ہے کہ جس نے ایمان اور اخلاق کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔

(من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه) [صحیح بخاری] یہ ذکر واذ کار کا مہینہ ہے..... ویسے تو مومن کی زبان ہر دم، ہر وقت اللہ کی یاد میں تروتازہ رہنی چاہیے لیکن رمضان میں حالت صوم یارات کی مبارک گھریوں میں اس کی افادیت دوچند ہو جاتی ہے (ولذکر الله اکبر)۔ اگر ہم رب العالمین کو یاد کریں گے تو وہ ہمیں عفو و درگزر اور انعام و اکرام کیلئے یاد کرے گا۔

فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرْ كُمْ وَ اشْكُرْوَا لِي وَ لَا تَكْفُرُونَ ﴿١٨﴾ اس ماہ مبارک کی راتوں میں یچھلے پھر تھائی میں اپنے خالق کو یاد کر کے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والوں کو مسیدانِ محشر کی پریشانیوں سے محفوظ رکھا جائے گا بلکہ وہاں جب نفسِ افسوس کا عالم ہو گا ایسے خوش بخنوں کیلئے خصوصی سائبان میں جگہ دی جائے گی۔ (ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا) [صحیح مسلم] ورنہ یادِ الہی سے غفلت زندگی، قبر اور محشر میں ندامت کا سبب ہن جائے گی ﴿٢﴾ وَ مِنْ أَعْرَضْ عَنْ ذَكْرِي فَانْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً وَ نَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿٣﴾ [ظ: 124]

قیامِ اللیلِ رمضان کی زینت ہے۔ اللہ کے متقدی بندوں کا شعار ہے کہ وہ سال بھر تجدید کا اہتمام کرتے ہیں لیکنِ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی برکتِ رحیمی ہے کہ تراویح یا تجدید کا اکثر مسلمان اہتمام کرتے ہیں اور بعض لوگ فرض نمازوں سے زیادہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اگرچہ ان کا یہ جذبہ قابل قدر ہے لیکن تراویح کا اہتمام کرنے والوں کیلئے ضروری ہے کہ نماز پنجگانہ کو ضائع نہ اتریں۔ یومیہ نمازوں کا اہتمام صرفِ رمضان ہی نہیں بلکہ سال کے ہر ماہ اور ہر دن کریں کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان یومیہ زندگی میں نمازوں کی حدفاصل ہے۔

یہ مہینہ شکرگزاری کا ہے، دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد جب افطار کیلئے بیٹھیں تو ان لوگوں کو کبھی یاد کر لیا کریں جن کی زندگیاں کئی کئی دن فاقوں میں بسر ہوتی ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ افطار میں بہت ہی واجبی خوراک پر قناعت کرتے ہیں تاکہ سحری میں شکم پروری ہو سکے۔ کیونکہ گھر میں اناج کی قلیل مقدار اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھائیں۔ اپنے بچوں کیلئے عید کی تیاری کرتے ہوئے ان کا بھی خیال رہے جن کے بچے کسی شفقت بھرے ہاتھ کے منتظر ہوتے ہیں جو کسی مسیحی کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مہینہ ہمدردی و نگساری کا ہے۔ ویسے الحمد للہ لوگ اس ماہ میں ہمدردی کا مظاہرہ تو کرتے ہیں لیکن اس میں نظم و ضبط کے ذریعہ زیادہ فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں نیزان چیزیں ورکرزاں پر بھی نظر رہے جو چندے بتوڑ نے میں مہارت رکھتے ہیں لیکن مستحقین تک پہنچانے میں مخفف بہانوں سے خیانت کے مرتكب ہوتے ہیں۔

یہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے ﴿١٨﴾ شہرِ رمضان الذی انزل فیه القرآن ﴿١٨٥﴾ [آل بقرۃ: 185] قرآن

اور رمضان دونوں کا گہر اربط اور تعلق ہے، اس ماہ مقدس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کا تعلق اس کلام مقدس کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے کہ گھر گھر تلاوت قرآن، مسجد مساجد سماع قرآن اور محفل محفل ذکر قرآن کا اہتمام۔ لیکن عموماً ہمارا یہ تعلق جزوی نوعیت کا ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں تلاوت پر اکتفاء کیا جائے، ورنہ تلاوت تو قد روانی قرآن کی پہلی سیرت ہے، اس سے آگے کے زینے طے کرنے ضروری ہیں کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب شفاء ہے، یہ کتاب نور و برہان ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانے کیلئے فہم قرآن، تذکرہ قرآن اور تذکیرہ قرآن بہت ضروری ہے تاکہ اپنی زندگیاں اس کی نورانی تعلیمات سے منور کر سکیں اور ہماری زندگیاں قرآن کی مطلوب زندگیوں میں ڈھل سکیں، اس کیلئے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ﴿هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَبِيَنَاتِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ اسی لیے اس ہدایت نامہ کو آسان بنایا گیا ہے۔ (وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِنْ مَدْكُرٍ) [القرآن]

یہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کی ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے، ہمارا اس ماہ میں دعاؤں کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اپنی عجز و انگساری کا اظہار اور رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا اعتراف ہے۔ دعا مومن کیلئے تھیمار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ ارحم الراحمین اس کی بارگاہ میں اختنے والے باتحوں کو خالی نہیں پھیرتا، بشرطیکہ ہماری دعاؤں میں قبولیت کی تاشیر ہو۔ دعا میں ظاہری آداب سے زیادہ حضور قلبی بہت ضروری ہے۔ الفاظ سے زیادہ معانی مطلوب ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کیلئے اکل حلال، کسب حلال اور رزق حلال نہایت ضروری ہے۔ ورنہ دعا نہیں اپنی تاشیر کھودیں گی اور بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے باتحہ بے تسلی مرام وابس لوٹا دیئے جائیں گے۔

فرمان نبوی ہے کہ مصیبتوں میں گھر اٹھنے جب اپنے رب کی بارگاہ میں باتحہ اٹھاتے ہوئے مدد کیلئے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعا مسترد کرہی جاتی ہے کہ اس کا لحانا حرام کا، پینا حرام کا، غذا حرام فی، لباس حرام کی آمد فی کا، بھرالہا اس کی دعا کیسے قبول کرے گا۔ (صحیح مسلم)

ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں اختنے والے باتحہ کیا قبولیت دعا کی شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول کرے اور نہیں مستجاب الدعوات بنائے۔ امت مسلمہ پر اپنی عنایت خاص فرمائے۔ آمين